


اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھیں

تھوڑی سی زیادہ جگہ خالی چھوڑ کر

آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جتنی زیادہ خالی جگہ ہو، COVID-19 اور انفلوئنزا جیسی نظام تنفس کی بیماریوں کا پھیلنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔

دوسرے لوگوں سے 1.5 میٹر دور رہ کر اپنا اور اپنی کمیونٹی کا تحفظ کریں۔



خود کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک پہنیں



جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو گھر میں رہیں۔



اگر آپ اپنی علامات کے متعلق فکرمند ہوں تو 1800 020 080 پر کال کریں
مفت زبانی ترجمے کے لیے آپشن 8 چنیں



health.gov.au/covid19-translated